

[Published in the Gazette of Pakistan, Extraordinary, Part-1,
dated the 23rd August, 2022]

ORDINANCE No. VI OF 2022

AN

ORDINANCE

further to amend certain tax laws

WHEREAS, it is expedient further to amend certain tax laws for the purposes hereinafter appearing;

AND WHEREAS, the Senate and the National Assembly are not in session and the President of the Islamic Republic of Pakistan is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action;

WHEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to make and promulgate the following Ordinance:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Ordinance shall be called the Tax Laws (Second Amendment) Ordinance, 2022.

(2) It shall, unless specified otherwise, come into force at once.

2. **Amendments of the Sales Tax Act, 1990.**— In the Sales Tax Act, 1990, the following further amendments shall be made, namely:—

(a) in section 2, in clause (46), in sub-clause (i), in the explanation, after the word “electricity”, the expression “or natural gas including re-gasified liquefied natural gas” shall be inserted;

(b) in section 3,—

(i) for sub-section (9), the following shall be substituted and shall be deemed to have been so substituted from the 1st day of July, 2022, namely:—

“(9) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), tax shall be charged from retailers, other than those falling in Tier-1, through their monthly electricity bills, at the rate of five percent where the monthly bill amount does not exceed rupees twenty thousand and at the rate of seven and half percent where the monthly bill amount exceeds the aforesaid amount and the electricity supplier shall deposit the amount so collected directly without adjusting against his input tax:

Provided that the tax under this sub-section shall be in addition to the tax payable on supply of electricity under sub-sections (1), (1A) and (5):

Provided further that the Commissioner of Inland Revenue having jurisdiction shall issue order to the electricity supplier regarding exclusion of a person who is either a Tier-1 retailer or not a retailer.”; and

(ii) after sub-section (11), the following new sub-section shall be added, namely:—

- (12) Notwithstanding anything contained in this Act, the Federal Government may, in lieu of or in addition to the tax under sub-section (9), by notification in the official Gazette, levy and collect such amount of tax at such rates and from such date as it may deem fit, from retailers, other than those falling in Tier-1, through their monthly electricity bill, and may also specify the mode, manner or time of payment of such tax:

Provided that different rates or amounts of tax may be specified for different persons or class of persons.”; and

- (c) in the Sixth Schedule, in Table-2, in column (1), after serial number 54, the following new serial number and entries relating thereto in columns (2) and (3) shall be added, namely:—

“55	Single cylinder agriculture diesel engines (compression ignition internal combustion piston engines) of 3 to 36 HP.	Respective headings.”.
-----	---	------------------------

3. **Amendments of Income Tax Ordinance, 2001 (XLIX of 2001).**—In the Income Tax Ordinance, 2001 (XLIX of 2001), the following further amendments shall be made, namely:—

- (1) for section 99A, the following shall be substituted and shall be deemed to have been so substituted from the 1st day of July, 2022, namely:—

“99A. **Special provisions relating to payment of tax through electricity connections.** (1) Notwithstanding anything contained in the Ordinance, a tax shall be charged and collected from retailers other than Tier-I retailers as defined in the Sales Tax Act, 1990 (VII of 1990) and specified service providers on commercial electricity connections at the rates specified in the income tax general order issued in terms of sub-section (2).

- (2) For the purposes of this section, the Federal Government or the Board with the approval of the Minister in-charge pursuant to the approval of the Economic Coordination Committee of the Cabinet may, issue an income tax general order to—

- (a) provide the scope, time, payment, recovery, penalty, default surcharge, adjustment or refund of tax payable under this

- section in such manner and with such conditions as may be specified;
- (b) provide the collection of tax on the amount of bill or on any basis of consumption, in addition to or in lieu of advance tax collectible under sub-section (1) of section 235, at such rates or amounts, from such date and with such conditions as may be specified;
 - (c) provide record keeping, filing of return, statement and assessment in such manner and with such conditions as may be specified;
 - (d) provide mechanism of collection, deduction and payment of tax in respect of any person;
 - (e) include or exempt any person or classes of persons, any income or classes of income from the application of this section, in such manner and with such conditions as may be specified; and
 - (f) provide that tax collected under this section shall in respect of such persons or classes of persons be adjustable, final or minimum, in respect of any income to such extent and with such conditions as may be specified.
- (3) The provisions of sub-section (1) of section 235 shall apply to the persons as specified therein unless specifically exempted under the income tax general order issued under sub-section (2).
 - (4) The provisions of section 100BA and rule 1 of the Tenth Schedule shall not apply to the tax collectible under this section unless specifically provided in respect of the person or class of persons mentioned in the income tax general order issued under sub-section (2).";
 - (2) in section 235, the sub-section (1A) shall be omitted and deemed to have been so omitted from the 1st day of July, 2022;
 - (3) in the First Schedule, in Part IV,—
 - (a) in Division III, in clause (2), for the Table, the following shall be substituted, namely:—

S.No	Capacity	Rs. per seat per annum Non-Air Conditioned	Rs. per seat per annum Air Conditioned
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	4 or more persons but less than 10 persons	200	375
2.	10 or more persons but less than 20 persons	500	750
3.	20 persons or more	1000	1500"; and

(b) in Division IV, clause (3) shall be omitted;

(4) in the Second Schedule, in Part I,—

(a) after omitted clause (5), the following new clause shall be inserted and deemed to have been so inserted from the 1st day of July, 2022, namely:—

“(5A) Any allowance or perquisite paid or allowed as such outside Pakistan by the Government to a citizen of Pakistan for rendering service outside Pakistan.”; and

(b) after clause (105B), the following new clause shall be inserted, namely:—

“(105C) Any income derived by Kuwait Foreign Trading Contracting and Investment Company or Kuwait Investment Authority being dividend of the Pak-Kuwait Investment Company in Pakistan from the year of incorporation of Pak-Kuwait Investment Company.”; and

(5) in the Tenth Schedule, in Rule 10, after the omitted clause (h), the following new clause shall be inserted, namely: —

“(ha) tax collected under section 234 during the period starting from the date of commencement of the Tax Laws (Second Amendment) Ordinance, 2022 and ending on the 30th day of June, 2023 in respect of goods transport and passenger transport vehicle.”.

4. Amendments of the Federal Excise Act, 2005. — In the Federal Excise Act, 2005, in the First Schedule, in Table-I, in column (1), the following further amendments shall be made, namely: —

- (a) against serial number 7, in column (4), for the word "Ten rupee", the words "five thousand nine hundred and ninety rupees" shall be substituted;
- (b) against serial number 9, in column (4), for the words "five thousand nine hundred", the words "six thousand five hundred" shall be substituted; and
- (c) against serial number 10, in column (4), for the words "one thousand eight hundred and fifty", the words "two thousand and fifty" shall be substituted.

5. **Amendment of section 8 of the Finance Act, 2022.**—In the Finance Act, 2022, in section 8, the following further amendments shall be made, namely:—

- (a) in sub-section (13), after clause (c), the following new clause shall be inserted, namely:—
 - “(ca) “motor vehicle held in Pakistan” includes car, caravan automobiles, jeep, limousine, pickup, sports utility vehicle, trucks, vans, wagon and any other automobile excluding—
 - (i) a motor vehicle used for public transportation, carriage of goods and agriculture machinery; and
 - (ii) any motor vehicle held in Pakistan by a foreign diplomat or a foreign diplomatic mission.”; and
- (b) in the First Schedule, for the expression “(See section 1)”, the expression “[See sub-section (1)]” shall be substituted.

Statement of Objects and Reasons

The purpose of this bill is to lay the Tax Laws (Second Amendment) Ordinance, 2022 (VI of 2022) in the National Assembly under sub-paragraph (i) of Paragraph (a) of clause (2) of Article 73 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973.

2. The amendments are being introduced with immediate effect through an ordinance in order to remove difficulties faced by the taxpayers in implementation of certain provisions. Additionally, few corrective measures have also been incorporated in this Ordinance to rationalize certain taxes and rates.

3. The Ordinance seeks to amend the Sales Tax Act, 1990, Income Tax Ordinance, 2001, Federal Excise Act, 2005 and section 8 of the Finance Act, 2022.


(Miftah Ismail)
Minister for Finance and Revenue

آرڈیننس نمبر ۶ مجریہ ۲۰۲۲ء

بعض ٹیکس قوانین کو مزید ترمیم کرنے کا آرڈیننس

ہر گاہ کہ یہ قرین مصلحت ہے کہ بعد ازیں رونما ہونے والی اغراض کے لیے بعض ٹیکس قوانین میں مزید ترمیم کی جائے؛

اور چونکہ، سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس نہیں ہو رہے اور صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اطمینان حاصل ہے کہ ایسے حالات موجود ہیں جو فوری کارروائی کے متقاضی ہیں؛

لہذا، اب، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل ۸۹ کی شق (۱) میں تفویض کردہ اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان نے حسب ذیل آرڈیننس وضع اور جاری کیا ہے:-

۱۔ مختصر عنوان اور آغاز نفاذ:- (۱) یہ آرڈیننس ٹیکس قوانین (ترمیم دوم) آرڈیننس ۲۰۲۲ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ، تا وقتیکہ بصورت دیگر صراحت کیا گیا ہو، فوری نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ سیلز ٹیکس ایکٹ، ۱۹۹۰ء کی ترمیم:- سیلز ٹیکس ایکٹ، ۱۹۹۰ء، میں حسب ذیل مزید ترمیم وضع کی گئی ہیں، یعنی:-

(الف) دفعہ (۲) میں، شق (۴۶) میں، ذیلی شق (اول) میں، تشریح میں، لفظ ”بجلی“ کے بعد

عبارت ”یا قدرتی گیس جس میں دوبارہ گیس بنائی گئی مانع قدرتی گیس شامل ہے“ کو شامل کر دیا جائے گا۔

(ب) دفعہ ۳ میں،-

(اول) ذیلی دفعہ (۹) کو، حسب ذیل سے تبدیل کر دیا جائے گا اور یکم جولائی، ۲۰۲۲ء

سے اس طرح تبدیل کردہ متصور ہوگی، یعنی:-

”(۹) ذیلی دفعہ (۱) میں شامل کسی بھی شے کے باوصف، ٹیکس پر چون فروشوں

سے، علاوہ ازیں ان کے جو صف اول میں آتے ہیں، ان کے ماہانہ بجلی

کے بلوں کے ذریعے پانچ فیصد کی شرح سے جہاں ماہانہ بل کی رقم بیس ہزار روپے سے تجاوز نہ کرے، اور ساڑھے سات فیصد کی شرح سے جہاں ماہانہ بل کی رقم مذکورہ بالا رقم سے تجاوز کرتی ہو وصول کیا جائے گا اور بجلی فراہم کنندہ اس طرح اکھٹی کردہ رقم کو اپنے مداخلت ٹیکس کے برخلاف بغیر ایڈجسٹ کیے بلا واسطہ جمع کروائے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ اس ذیلی دفعہ کے تحت ٹیکس ذیلی دفعات (۱)، (الف) اور (۵) کے تحت بجلی کی فراہمی پر قابل ادا ٹیکس کے علاوہ ازیں ہوگا۔

مگر مزید شرط یہ ہے کہ کمشنران لینڈ ریونیو کو یہ اختیار حاصل ہو گا کہ وہ بجلی کے فراہم کنندہ کو ایک شخص جو کہ صف اول کا پرچون فروش ہے یا پرچون فروش نہیں ہے کو خارج کرنے کا حکم جاری کر سکتا ہے، اور (دوم) ذیلی دفعہ (۱۱) کے بعد، حسب ذیل نئی ذیلی دفعہ کا اضافہ کر دیا جائے گا، یعنی:-

”(۱۲) اس ایکٹ میں شامل کسی بھی امر کے باوصف، وفاقی حکومت، ذیلی دفعہ

(۹) کے تحت ٹیکس کے بدلے یا اس سے مزید برآں، ہر کاری جریڈے میں اعلامیہ کے ذریعے، ٹیکس کی ایسی رقم ایسی شرح سے اور ایسی تاریخ سے پرچون فروش پر عائد اور اکھٹی کر سکتی ہے جیسا کہ وہ مناسب سمجھے، علاوہ ان کے جو صف اول میں آتے ہوں، ان کے ماہانہ بجلی کے بلوں کے ذریعے اور مذکورہ ٹیکس کی ادائیگی کے وقت یا طریقہ عمل کی انداز بھی صراحت کر سکے گی:

مگر شرط یہ ہے کہ ٹیکس کی مختلف شرح اور رقوم مختلف اشخاص

یا اشخاص کے درجوں کے لیے صراحت کی جاسکے گی؛ اور

(ج) جدول ششم میں نمبر ۲ میں، کالم (۱) میں نمبر شمار ۵۴ کے بعد، حسب ذیل نیا نمبر شمار اور کالمز (۲) اور (۳) میں اس سے متعلق اندراجات کا اضافہ کیا جائے گا، یعنی:-

متعلقہ عنوانات	سنگل سیلنڈر زرعی ڈیزل انجن 336 تا 363 انجی پی (اندرونی احتراق والے انجن میں سیلنڈر کے اندر محلول کو بھڑکانے کے عمل سے چلنے والے پسٹن انجنز)۔
----------------	--

۳۔ انکم ٹیکس آرڈیننس ۲۰۰۱ء (نمبر ۴۹ مجریہ ۲۰۰۱ء) کی ترامیم:- انکم ٹیکس آرڈیننس،

۲۰۰۱ء (نمبر ۴۹ مجریہ ۲۰۰۱ء) میں حسب ذیل مزید ترامیم وضع کی جائیں گی، یعنی:-

- (۱) دفعہ ۹۹ الف، حسب ذیل سے تبدیل کی جائے گی اور یکم جولائی ۲۰۲۲ء سے اس طرح تبدیل کی گئی سمجھی جائے گی، یعنی:-

”۹۹ الف:- بجلی کنکشن کے ذریعے ٹیکس ادائیگی سے متعلق خصوصی احکامات:-

- (۱) آرڈیننس میں شامل کسی بھی شے کے باوصف، پرچون فروشوں سے ماسوائے صف اول کے

پرچون فروشوں کے ٹیکس عائد اور وصول کیا جائے گا جیسا کہ سیلز ٹیکس ایکٹ ۱۹۹۰ء (نمبر ۱۷ بابت ۱۹۹۰ء) میں بیان کیا گیا ہے اور تجارتی بجلی کے کنکشن پر صراحت کردہ سروسز کے فراہم کنندہ گان سے ذیلی دفعہ (۲) کی اصطلاح میں جاری کردہ انکم ٹیکس عمومی فرمان میں صراحت کردہ شرح پر وصول کیا جائے گا۔

- (۲) اس دفعہ کی اغراض کے لیے، وفاقی حکومت یا بورڈ وزیر انچارج کی منظوری سے کابینہ کی اکنا مک کو آرڈینیشن کمیٹی کی منظوری کی مطابقت میں، ذیل کے اہتمام کے لیے انکم ٹیکس عمومی فرمان جاری کر سکے گی۔

(الف) اس دفعہ کے تحت قابل ادائیگی کا دائرہ عمل، وقت، ادائیگی، بازیابی، جرمانہ، نادھندگی، سرچارج، ایڈجسٹمنٹ یا واپسی کا ایسے طریقہ کار اور ایسی شرائط پر اہتمام کرنے کے لیے جیسا کہ صراحت کیا جاسکتا ہے؛

- (ب) ٹیکس کو اکٹھا کرنے کا اہتمام کرنے کے لیے، دفعہ ۲۳۵ کی ذیلی دفعہ (۱)، کے تحت قابل وصول پیشگی ٹیکس کے بجائے یا علاوہ ازیں بل کی رقم یا استعمال کی کسی بھی بنیاد پر ٹیکس ایسی شرح یا رقم پر ایسی تاریخ سے اور ایسی شرائط پر جیسا کہ صراحت کی جاسکتی ہیں؛

﴿4﴾

- (ج) ایسی شرائط پر اور ایسے طریقہ کار پر، ریکارڈ رکھنے، گوشوارے، کیفیت نامے اور تخمینے داخل کرنے کے لیے اہتمام کیا جائے گا، جیسا کہ صراحت کیا جاسکتا ہے؛
- (د) کسی بھی شخص کی بابت محصول اکٹھا کرنے، کٹوتی کرنے اور ادائیگی کے لیے طریقہ کار کا اہتمام کیا جاسکے۔
- (ه) اس دفعہ کے اطلاق سے، کسی بھی شخص یا اشخاص کے درجوں، کو کسی بھی آمدن یا آمدن کے درجوں میں شامل کرنے یا استثناء دینا ایسے طریقہ کار اور ایسی شرائط میں جیسا کہ صراحت کیا جاسکتا ہے؛ اور
- (و) اس دفعہ کے تحت اکٹھا کردہ ٹیکس کو اس شخص یا اشخاص کے درجے کی بابت قابل تسویہ، حتمی یا کم سے کم، کسی بھی آمدن کی بابت ایسی حد تک اور ایسی شرائط پر جیسا کہ صراحت کیا جاسکتا ہے۔
- (۳) دفعہ ۲۳۵ کی ذیلی دفعہ (۱) کے احکامات ان اشخاص پر لاگو ہوں گے جیسا کہ اس میں صراحت کیا گیا ہے تاوقتیکہ انکم ٹیکس عمومی فرمان کی ذیلی دفعہ (۲) کے تحت صریحاً استثناء نہ دیا گیا ہو۔
- (۴) دفعہ ۱۰۰ اب الف کے اور جدول دہم کا قاعدہ کے احکامات جمع کردہ ٹیکس پر لاگو نہیں ہوں گے تاوقتیکہ ذیلی دفعہ (۲) کے تحت جاری کردہ انکم ٹیکس عمومی فرمان میں درج شدہ اشخاص کے درجوں یا شخص کی بابت صریحاً فراہم نہ کیا گیا ہو۔“
- (۲) دفعہ 235 میں، ذیلی دفعہ (۱-الف) کو حذف کر دیا جائے گی اور یکم جولائی، ۲۰۲۲ء سے اسی طرح حذف کی گئی متصور ہوگی؛
- (۳) جدول اوّل میں، حصہ چہارم میں،۔

(الف) ڈویژن سوم میں، شق (۲) میں، ٹیبل کو، حسب ذیل سے تبدیل کیا جائے گا، یعنی:-

نمبر شمار	استعداد	نان ایئر کنڈیشنڈ سالانہ فی سیٹ۔ روپے	ایئر کنڈیشنڈ سالانہ فی سیٹ۔ روپے
(۱)	(۲)	(۳)	(۴)
۱۔	۴ یا زائد اشخاص لیکن ۱۰ اشخاص سے کم	۲۰۰	۳۷۵

۷۵۰	۵۰۰	۱۰ یا زیادہ اشخاص لیکن ۲۰ اشخاص سے کم	۲۔
۱۵۰۰؛ اور	۱۰۰۰	۲۰ اشخاص یا زیادہ	۳۔

(ب) ڈویژن چہارم میں شق (۳) حذف کر دی جائے گی؛

(۴) جدول دوم کے حصہ اول میں،۔۔

(الف) حذف شدہ شق (۵) کے بعد، حسب ذیل نئی شق شامل کر دی جائے گی اور یکم جولائی،

۲۰۲۲ء سے اس طرح شامل کردہ متصور کی جائے گی، یعنی:۔

” (۵الف) پاکستان کے کسی شہری کو پاکستان سے باہر خدمات انجام دینے کے لیے حکومت

کی طرف سے ادا کیا گیا یا دیا گیا کوئی بھی الاؤنس یا اضافی مراعات“؛ اور

(ب) شق (۱۰۵ب) کے بعد، حسب ذیل نئی شق شامل کر دی جائے گی، یعنی:۔

” (۱۰۵ج) پاکستان میں کویت سرمایہ کار کمپنی کی تشکیل سے کویت فارن ٹریڈنگ کنٹرولنگ

اینڈ انوسٹمنٹ کمپنی یا کویت سرمایہ کاری اتھارٹی کی جانب سے بطور منافع منقسمہ

حاصل کردہ کوئی بھی آمدنی“؛ اور

(۵) جدول دہم، کے قاعدہ ۱۰ میں شق (ہ) کہ حذف کے بعد، حسب ذیل نئی شق شامل کر دی جائے گی،

یعنی:۔

” (۵الف) دفعہ ۲۳۴ کے تحت ٹیکس قوانین (ترمیم دوم) آرڈیننس، ۲۰۲۲ء کے آغاز نفاذ کی

تاریخ سے شروع ہونے والی اور ۳۰ جون ۲۰۲۳ء کو اختتام پزیر ہونے والی مدت

کے دوران مال بردار اور مسافر بردار گاڑیوں کی نسبت میں اکٹھا ہونے والا ٹیکس۔“۔

۴۔ وفاقی ایکسائز ایکٹ، ۲۰۰۵ء کی ترامیم:۔ وفاقی ایکسائز ایکٹ، ۲۰۰۵ء کے، جدول اول کے

کالم (۱) میں، حسب ذیل مزید ترامیم کر دی جائیں گی، یعنی:۔

(الف) نمبر شمارے کے سامنے، کالم (۴) میں، لفظ ”دس روپے“ کی بجائے الفاظ ”تین سو نوے

روپے“ سے تبدیل کر دیئے جائیں گے؛

(ب) نمبر شمار ۹ کے سامنے، کالم (۴) میں، الفاظ ”پانچ ہزار نو سو“ کی بجائے الفاظ ”چھ ہزار پانچ سو“ سے تبدیل کر دیے جائیں گے؛ اور

(ج) نمبر شمار ۱۰ کے سامنے، کالم (۴) میں، الفاظ ”ایک ہزار آٹھ سو پچاس“ کی بجائے الفاظ ”دو ہزار پچاس“ سے تبدیل کر دیے جائیں گے۔

۵۔ مالیات ایکٹ، ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۸ کی ترمیم:- مالیات ایکٹ، ۲۰۲۲ء کی، دفعہ ۸ میں، حسب ذیل مزید ترامیم کی جائیں گی، یعنی:-

(الف) ذیلی دفعہ (۱۳) میں شق (ج) کے بعد، حسب ذیل نئی دفعہ شامل کر دی جائے گی، یعنی:-

”(ج الف) ”پاکستان میں موجود موٹر گاڑیاں“ اس میں کار، کارواں آٹوموبائلز، جیپ، لیمرزین، پک اپ، اسپورٹس یوٹیلیٹی گاڑی، ٹرک، وین، ویگن اور کوئی بھی دیگر آٹوموبائل شامل ہیں ماسوائے حسب ذیل کے:-

(اول) عوام الناس کی نقل و حمل، مال بردار اشیاء کی ترسیل اور زرعی مشینری کے لیے استعمال ہونے والی موٹر گاڑی؛ اور

(دوم) کوئی بھی موٹر گاڑی جو پاکستان میں کسی غیر ملکی سفیر یا غیر ملکی سفارتی مشن کے زیر استعمال ہو؛ اور

(ب) جدول اول میں، عبارت ”(دیکھیں دفعہ ۱) کی بجائے عبارت ”(دیکھیں ذیلی دفعہ (۱))“ سے تبدیل کر دی جائے گی۔

بیان اغراض و وجوہ

اس بل کا مقصد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، ۱۹۷۳ء کے آرٹیکل ۷۳ کی شق (۲) کے پیرا گراف (الف) کے ذیلی پیرا گراف (اول) کے تحت قومی اسمبلی میں ٹیکس قوانین (ترمیم دوم) آرڈیننس، ۲۰۲۲ء (۴ مجریہ ۲۰۲۲ء) پیش کرنا ہے۔

۲۔ ترمیم آرڈیننس کے ذریعے سے فی الفور موثر کرنے کے لیے متعارف کی گئیں تاکہ بعض احکامات پر عمل درآمد میں محصول دہندہ کی مشکلات کا ازالہ کیا جاسکے۔ مزید برآں، چند اصلاحی اقدام بھی اس آرڈیننس میں شامل کیے گئے ہیں تاکہ بعض محصولات اور نرخوں کو معقول ضابطے پر چلایا جاسکے۔

۳۔ آرڈیننس سیز ٹیکس ایکٹ، ۱۹۹۰ء، انکم ٹیکس آرڈیننس، ۲۰۰۱ء، فیڈرل ایکسائز ایکٹ، ۲۰۰۵ء اور فنانس ایکٹ، ۲۰۲۲ء کی دفعہ ۸ میں ترمیم کا متلاشی ہے۔

(مفتاح اسماعیل)

وزیر برائے خزانہ و محاصل